



## جب تم میں سے کوئی چھینکے تو ”الحمد للہ“ کہے اور اس کا بھائی یا اس کا ساتھی ”يَرْحَمُكَ اللهُ“ کہے جب ساتھی ”يَرْحَمُكَ اللهُ“ کہے، تو اس کے جواب میں چھینکنے والا ”يَهْدِيكُمْ الله وَيُصْلِحُ بِأَلْسِنَتِكُمْ“ کہے

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی چھینکے تو ”الحمد للہ“ کہے اور اس کا بھائی یا اس کا ساتھی ”يَرْحَمُكَ اللهُ“ کہے جب ساتھی ”يَرْحَمُكَ اللهُ“ کہے، تو اس کے جواب میں چھینکنے والا ”يَهْدِيكُمْ اللهُ وَيُصْلِحُ بِأَلْسِنَتِكُمْ“ (اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات درست فرمادے) کہے  
[صحیح] [اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے]

حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب کوئی مسلمان چھینکے، تو اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف بیان کرے؛ کیوں کہ چھینکنے والا چھینک کے ذریعے اپنے دماغ میں موجود گندے بخارات کے نکلنے کی نعمت و منفعت کو حاصل کرتا ہے اگر وہ دماغ میں موجود رہتا، تو اس سے بہتیری تکلیف دہ بیماریاں پیدا ہوتیں اس لیے اس نعمت کے حصول پر اس کے لیے مشروع ہے کہ وہ اللہ کی تعریف و حمد بیان کرے پھر اس کا سننے والا ”يَرْحَمُكَ اللهُ“ کہے کہ اسے دعا دے اور چھینکنے والا ”يَهْدِيكُمْ اللهُ وَيُصْلِحُ بِأَلْسِنَتِكُمْ“ کہے کہ اس کا جواب دے اس طرح چھینک کے ذریعے چھینکنے والا اور سننے والا کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اور یہ لوگوں پر اس دین کے عظیم فضل و مہربانی کی وجہ سے ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3433>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

